

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكُوٰةَ

اور قائم کرو نماز زکوٰۃ اور ادا کرو

وَمَا تَقْرِبُ مِنْ خَيْرٍ

اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی خیر

تَجْدِيدُهُ عِنْدَ اللَّهِ

تم پاؤ گے اسے اللہ کے پاس

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَصِيرُ

الله اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے

وَقَالُوا

اور انہوں نے کہا

إِلَّا مَنْ كَانَ

مگر وہ جو ہو

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوگا

تِلْكَ أَمَانِيهِمْ

تمنا سئیں ہیں ان کی

هُودًا أَوْ نَصَارَى

یہودی یا نصرانی

قُلْ


کہہ دیجیے

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

لے آؤ دلیل اپنی

إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ

اگر ہوتم سچ



وَقَالَتِ النَّصْرَى

نصری نے اور کہا

وَقَالَتِ الْيَهُودُ

یہود نے اور کہا

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ

کسی چیز پر نہیں ہیں یہود کسی چیز پر

لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ

نصری نہیں ہیں کسی چیز پر

وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَبَ

كتاب کی حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

اسی طرح کہا انہوں نے جو نہیں علم رکھتے مثل / مانند ان کی بات کے

فَاللَّهُ يَحْكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

تواللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کے

فِيمَا كَانُوا فِيهِ

اس میں جو تھے وہ جس میں

يَخْتَلِفُونَ

وہ اختلاف کرتے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو

اللَّهُ مَسِحَّدَ مَنَعَ

اللَّهُكَ مَسِحُولُ مَنْعَ کرے

وَسَخْنٌ فِيْ خَرَابِهَا

اور وہ کوشش کرے ان کی خرابی / دیرانی کی

أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا إِسْمُهُ

ذکر کیا جائے ان میں نام اس کا

أُولَئِكَ مَا كَانَ

یہی لوگ ہیں نہیں ہے

لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَاغِفِينَ

ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ

ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا

وَاللّٰهِ

اور اللہ ہی کے لیے ہیں

وَالْمَغْرِبُ

اور مغرب

الْمَشْرِقُ

شرق

فَأَيْنَما
تُولُوا

پھر جس طرف تم منہ کرو گے

فَثُمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

اللہ کا

چہرہ

تو وہیں ہے

إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

بے شک اللہ وسعت والا ہے خوب جانے والا ہے

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

اور انہوں نے کہا بنی اللَّهُ نے
کوئی اولاد کہا کہا

سُبْحَنَهُ

پاک ہے وہ

بِلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور زمین میں میں ہے

كُلُّ لَهُ قُنْدِونَ

سب اسی کے
فرماں بردار ہیں

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

بیدار کرنے والا ہے
اور زمین کا آسمانوں

وَإِذَا قَضَى أَمْرًا

اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ

تو بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے

كُنْ فَيَكُونُ

تو وہ ہو جاتا ہے ہو جا

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
اُور کہا
انہوں نے جو
نہیں علم رکھتے

آیَةٌ تَأْتِيْنَا
کوئی نشانی
آتی ہمارے پاس

اوْ
یا

لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ
کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے
اللَّهُ

كَذِلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ
اسی طرح کہا تھا انہوں نے جو
مش/مانند ان سے پہلے تھے ان کی بات کے

تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ
مشابہ ہو گئے
دل ان کے

قَدْ
تحقیق

بَيْنَا الْآيَتِ لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ
 واضح کر دیں ہم نے آیات جو یقین رکھتے ہیں
ان لوگوں کے لیے

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کو ساتھ حق کے

وَنَذِيرًا بَشِيرًا

خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا (بنا کر)

وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں

وَلَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى

اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے نصاریٰ اور نہ یہود

حَتَّىٰ تَتَبَعَ مِلَّتَهُمْ

یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے طریقے کی

قُلْ

کہہ دیجیے

إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ

بے شک ہدایت ہدایت وہی اللہ کی ہدایت ہے

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو آگیا آپ کے پاس علم میں سے

مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

کوئی مددگار اور نہ کوئی حمایتی

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ

نہیں آپ کے لیے اللہ سے (بچانے والا)

الْكِتَبَ اٰتَيْنَاهُمْ دِيٰهُمْ اٰتَيْنَاهُمْ

کتاب

دی ہم نے انہیں

وہ لوگ جو

بِتْلُونَةٌ حَقٌّ تِلَاقُتُهُ

وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی (جیسا) حق ہے اس کی تلاوت کا

وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ

اور جو کوئی کفر کرے گا اس کا

أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں وہ

يَبَرِّئُ إِسْرَائِيلَ

اے بنی اسرائیل

اذْكُرُوا نِعْمَتِي

یاد کرو میری نعمت کو

وَآتَنَا فَضَّلَتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ

اور بے شک میں فضیلت دی تھی میں نے تمہیں تمام جہانوں پر

الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

وہ جو انعام کی میں نے تم پر

وَ اتَّقُوا يَوْمًا

اس دن سے

اور ڈرو

لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَةً

کوئی نفس کے کچھ بھی
نہیں کام آئے گا

وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ

اورنہ کوئی بدلہ
قبول کیا جائے گا

وَ لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

اورنہ کوئی سفارش
نفع دے گی اسے

وَ لَا هُمْ يُنْصَرُونَ

اورنہ وہ
وہ مدد کیے جائیں گے

وَإِذْ أُبْتَلَىٰ إِبْرَهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ

اور جب آزمایا ابراهیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے

فَأَتَتَهُنَّ

تو اس نے پورا کر دیا انہیں

قَالَ

کہا

وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ

اور میری اولاد میں سے

قَالَ

فرمایا

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام

قَالَ


فرمایا

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِيْنَ

ظالموں کو

عہد میرا

نہیں پہنچے گا



وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

اور جب کہا ابراہیم نے

رَبِّ اجْعَلْ هُنَّا بَلَدًا

اے میرے رب بنادے اسے شہر

أَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّرَكَاتِ

امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو چھلوٹ میں سے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور آخری دن پر اللہ پر

مَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ

جو کوئی ایمان لائے ان میں سے

قَالَ

فرمایا

فَأَمْتَعْهُ قَلِيلًا

تو میں فائدہ دوں گا اسے تھوڑا سا

وَمَنْ كَفَرَ

اور جس نے کفر کیا

ثُمَّ أَضْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ

پھر آگ کے طرف عذاب میں مجبور کر دوں گا اسے

وَبِئْسَ الْحَصِيرُ

اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ

اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم

الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

خوب سننے والا تو ہی ہے بے شک تو خوب جانے والا

رَبَّنَا تَقْبَلُ مِنَّا

اے ہمارے رب تو قبول فرمائیں ہم سے

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

اے ہمارے رب اور بنا ہمیں اپنے لیے فرماں بردار

وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

اور ہماری اولادیں سے اپنے لیے فرماں بردار ایک امت

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا

اور دکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور ہر بان ہو ہم پر

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ

بے شک تو تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

اے ہمارے رب اور میوٹ فرمائیں میں سے ایک رسول کو انہی میں سے

وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبَ

کتاب

وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبَ

اور وہ تعلیم دے انہیں

يَتَلَوُا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

وہ تلاوت کرے ان پر

آیات تیری

وَيُزَكِّيْهِمْ

اور وہ تزکیہ کرے ان کا

وَالْحِكْمَةَ

اور حکمت کی

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

خوب حکمت والا

بہت زبردست

تو ہی ہے

بے شک تو

إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ
مَنْ بَعْدَ وَجْهِنَّمَ
أَرْجُو أَنْ يَعْلَمَ
أَنَّهُ مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ

او کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے ابراہیم کے اپنے نفس کو بے قوف بنایا مگر وہ جس نے

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
أَوْ كَوْنُوا مِنْهُ مُؤْمِنُو
أَوْ كَوْنُوا مِنْهُ مُكَافِرٌ
أَوْ كَوْنُوا مِنْهُ مُنْكِرُونَ

اور کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے ابراہیم کے اپنے نفس کو بے قوف بنایا مگر وہ جس نے

وَلَقَدْ أُصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا
أَوْ الْبَيْتَ الْحَقِيقَةِ
فِي الدُّنْيَا مِنْ
أَنَّهُمْ لَيَاتِهِمْ مِنْ أَنْ

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَيَمِنَ الصَّالِحِينَ
أَوْ بَشَّرَهُمْ بِالْآخِرَةِ
أَوْ بَشَّرَهُمْ بِالْآخِرَةِ
أَوْ بَشَّرَهُمْ بِالْآخِرَةِ

او ربے شک وہ آخرت میں سے ہے البتہ صالح لوگوں میں سے ہے

إِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ
أَسْلِمْ قَالَ رَبِّي أَسْلِمْ
أَسْلِمْ قَالَ رَبِّي أَسْلِمْ
أَسْلِمْ قَالَ رَبِّي أَسْلِمْ


جب کہا اس کے رب نے فرمایا بردار ہو جا اس کو

قَالَ

اس نے کہا

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

میں فرمایا بردار ہو گیا رب کے لیے تمام جہانوں کے



إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ

جب آئی یعقوب کو موت

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ

کیا تھے تم موجود

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي

کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد

إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ

جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے

قَالُوا

انہوں نے کہا

نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ أَبَائِكَ

ہم عبادت کریں گے تیرے اللہ کی اور الہ کی تیرے آبا و اجداد کے

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے

إِلَهًا وَاحِدًا

الله کی ایک ہی کی

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

اور ہم اسی کے لیے فرماء بردار ہیں

تِلْكَ أُمَّةٌ خَلَتْ
آیک امت تھی یہ
وَهُنَّاکِیْنَ تَحْقِيقٌ

وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
اور تمہارے لیے ہے جو
کمایا تم نے

لَهَا مَا كَسَبَتْ
اس کے لیے ہے جو
اس نے کمایا

وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے وہ
و عمل کرتے

قُلْ

کہہ دیجیے

بَلْ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ
بلکہ ملت ابراہیم کی

حَنِيفًا

جو یکسو تھا

وَقَالُوا

اور انہوں نے کہا

كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى
یہودی یا نصرانی ہو جاؤ

تَهْتَدُوا

تم ہدایت پا لو گے

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
او زہین میں سے
مشرکین میں سے قہادہ

قُولُوا

کہوتم

أَمَّا بِاللَّهِ

ایمان لائے ہم اللہ پر

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

اور (اس پر) جو نازل کیا گیا طرف ہمارے

وَمَا أُنْزِلَ إِلَى

اور جو نازل کیا گیا طرف

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعَيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

اور اولاد یعقوب کے

اور یعقوب

اور اسحاق

اور اسماعیل

ابراهیم کے

وَمَا أُوتِيَ

اور جو دیئے گئے

وَمَا أُوتِيَ

اور جو دیئے گئے

النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے

مُوسَى وَعِيسَى

موسیٰ اور عیسیٰ

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَهِلِّ مِنْهُمْ

نبویں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

اور ہم اسی کے لیے فرماء بردار ہیں

فَإِنْ أَمْنُوا

پھر اگر وہ ایمان لے آئیں

بِإِيمَانٍ مَا أَمْنَتُمْ بِهِ

جس طرح ایمان لائے تم ساتھاں کے

فَقَدِ اهْتَدَوْا

پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے

وَإِنْ تَوَلُوا

اور اگر وہ منه پھر لیں

فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ

تو بے شک وہ اختلاف میں ہیں

فَسَيَكُفِّرُ كَمْ كَهُمْ اللَّهُ

پس عنقریب کافی ہو گا آپ کو ان سے اللہ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور وہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے

صَبْغَةَ اللَّهِ

اللَّهُكَ

رَنْگ

وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

رنگ میں

اللَّهُسے

زیادہ اچھا ہے

اور کون

وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُوْنَ

عبادت کرنے والے ہیں

اسی کی

اور ہم

قُلْ

کہہ دیجیے

فِي اللَّهِ اَتَحَاجَّوْنَا

کیا تم بھگڑا کرتے ہو ہم سے
اللَّهُكَ بارے میں

وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ

حالانکہ وہ

رب ہے ہمارا

وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ

ورتہمارے لیے ہیں اعمال تہمارے

وَلَنَا اَعْمَالُنَا


اور ہمارے لیے ہیں اعمال ہمارے

وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

مخلص ہیں

اسی کے لیے

اور ہم



وَمَنْ أَظْلَمُ

اور کون بڑا خالم ہے

مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ

اس سے جو چھپائے گواہی کو جو پاس ہے اس کے اللہ کی طرف سے

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو

اُمَّةٌ تِلْكَ

ایک امت تھی یہ

قَدْ خَلَتْ

وَهُنَّ رَجُلَيْ تَحْقِيقٍ

وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

اور تمہارے لیے ہے جو کمایا تم نے

لَهَا مَا كَسَبَتْ

اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا

يَعْمَلُونَ

وَهُنَّ رَجُلَيْ

كَانُوا

تَحْقِيقٍ وَهُنَّ

عَمَّا

اس کے بارے میں جو

تَسْأَلُونَ

تم سوال کیے جاؤ گے

وَلَا

اور نہ